

Quranic Arabic Grammar

قرآنک عربک گرامر

Lesson - 9

شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

📞 +91 92906 21633 (whatsapp only)

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes



AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes
II - فعل کی قسمیں

II - Fel ki qisme - II - Types of verb

المضارع

Mudaare - Present and Future tense

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

Present/ Future tense	Muzaare'	مضارع
<p>تعریف: مضارع وہ فعل ہے جس سے کام کا کبھی تو زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا پایا جائے</p> <p>Tareef: Muzaare' wo fel hai jis se kaam ka kabhi to zamane haal me aur kabhi zamane aaenda me hona paya jaye.</p> <p>Definition: Those verbs which indicate present and future tense are called Muzaare'</p>		<p>يَفْعَلُ Yaf-a-lu</p> <p>Wo karta hai ya kare ga he will do or he will be doing</p>

فعل مضارع تین اوزان پر آتا ہے۔ يَفْعَلُ، يَفْعِلُ، يَفْعُلُ (یعنی حرفِ عین پر تغیر واقع ہوتا ہے)
Fel maazi teen/3 tarha se aata hai. Yaf-alu, Yaf-ilu, Yaf-ulu
(Yani huruf A'yeen per tageer waqqye hota hai)

<p>يَسْمَعُ (وہ سنتا ہے یا سنے گا) Wo suntan hai ya sune ga</p>	<p>يَشْرَبُ (وہ پیتا ہے یا پیے گا) Wo pita hai ya piye ga</p>	<p>يَفْتَحُ (وہ کھولتا ہے یا کھولے گا) Wo kholta hai ya khole ga</p>	<p>يَذْهَبُ (وہ جاتا ہے یا جائے گا) Wo jata hai ya jaye ga</p>	<p>يَفْعَلُ کی مثالیں</p>
<p>يَضْرِبُ (وہ مارتا ہے یا مارے گا) Wo maarta hai ya mare ga</p>	<p>يَغْسِلُ (وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا) Wo dhoota hai ya dhooaye ga</p>	<p>يَحْسِبُ (وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا) Wo gumaan karta hai ya kare ga</p>	<p>يَجْلِسُ (وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا) Wo baithta hai ya baithega</p>	<p>يَفْعَلُ کی مثالیں</p>
<p>يَكْرُمُ (وہ عزت کرتا ہے یا کرے گا) Wo izzat karta hai yak are ga</p>	<p>يَنْصُرُ (وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا) Wo madad karta hai ya kare ga</p>	<p>يَأْكُلُ (وہ کھاتا ہے یا کھائے گا) Wo khata hai ya khaye ga</p>	<p>يَدْخُلُ (وہ اندر آتا ہے یا آئے گا) Wo andar aata hai ya aaye ga</p>	<p>يَفْعَلُ کی مثالیں</p>

Arshad Basheer Madani Notes

مضارع بنانے کا طریقہ

Muzaar'e banane ka tariqa

Method of making Verb of present/ future

مضارع ماضی سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں (ی، ت، آ، ن) میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے:
ی چار صیغوں کے پہلے آتی ہے، تین مذکر غائب اور ایک جمع مؤنث غائب۔
ت آٹھ صیغوں کے پہلے آتی ہے، دو واحد و تثنیہ مؤنث غائب اور چھ مذکر و مؤنث حاضر۔
آ ایک صیغہ کے پہلے آتا ہے یعنی واحد متکلم۔
ن ایک صیغہ کے پہلے آتا ہے یعنی جمع متکلم۔

Muzaar'e maazi se banta hai. Uske banana ka tariqa ye hai ke maazi ke shuru mai
(ت ، ی ، ا ، ن) mai se ek huruf iss tarah lagay jata hai:
ی chaar 4 seghon ke pehle aati hai, 3 muzakkar gayab aur ek jama' muannas gayeb.
ت Aath (8) seghon ke pehle aati hai, 2 wahid wa tasniya muannas ghayeb aur 6 muzakkar wa
muannas hazir.
آ Ek segha ke pehle aata hai yani wahid mutakalim.
ن Ek segha ke pehle aata hai yani jama' mutakallim.

Verb (Muzaare) is made from its past (Maazi) by adding one of the four letters before it
(ی ، ت ، آ ، ن)
ی (Yaa): comes before 4 verb, 3 for 3rd person male and one for 3rd person female plural
ت (Taa): comes before 8 verbs, 2 for singular, dual and female 3rd person and 6 for 2nd
person male and female.
آ (Alif): comes before 1st person Singular
ن (Noon) : comes before 1st person plural

نوٹ: (ی، ت، آ، ن) پر زبر آتا ہے اور اس کے بعد کا حرف "ف" مجزوم ہوتا ہے۔

Note: (ت ، ی ، ا ، ن) per zabar aata hai aur uske ba'ad ka huruf "Fa" majzoom hota hai.

Note: In the verb of present tense, the letters (ی ، ت ، آ ، ن) has zabar and "Fa" kalima has a jazam on it

Arshad Basheer Madani Notes

مضارع کا آخری حرف پانچ / ۵ جگہ مرفوع ہوتا ہے؛ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ چار تثنیوں کے آخر میں نون مکسورہ آتا ہے۔

تین جگہ نون مفتوح زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ (جمع مذکر غائب وحاضر اور واحد مؤنث حاضر میں) جمع مؤنث غائب وحاضر کے آخر میں بھی دو جگہ نون مفتوح آتا ہے مگر اس کو نون ضمیر کہتے ہیں یہ ضمیر فاعل ہے اور کبھی ساقط نہیں ہوتی۔

Muzaar'e ka akhri harf aakhir paanch/5 jaga marfoo' hota hai; Wahid muzakkar ghayab, wahid muannas gayeb, wahid muzakkar hazir, wahid mutakallim aur jama' mutakallim.

Chaar tasniyaon ke aakhir mai noon e maksoorah.

Teen jaga (jama' muzakkar gayeb wa hazir aur wahid muannas hazir mai) noon e maftooh ziyada kiya jata hai. Isko noon Arabi kaha jata hai.

Jama' muannas ghayab wa hazir ke aakhir me bhi do jagah noon maftooh aata hai magar usko noon zameer kehte hai ye zameer fel hai aur kabhi saaqit nahi hoti.

Arshad Basheer Madani Notes

Last letter of muzare has pesh in 5 places on the conjugation (3rd person singular male/ 2nd person female and 1st persons)

The declinable noon at the end of four dual verbs

In 3 places, 3rd person male and 2nd person male and 3rd person female, declinable noon comes with zabar

In 3rd person and 2nd person plural female noon comes with zabar called as noon of zameer and it is faa'el (doer of action) and is always fixed (indeclinable).

نوٹ: مضارع کا تیسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے یَفْعَلُ اور کبھی مکسور جیسے یَفْعَلُ اور کبھی مضموم جیسے یَفْعُلُ۔

Note: Muzaare' ka teesra hurf kabhi muftooh hota hai jayse Yaf-alu aur kabhi maksoora jaise Yaf-ilu aur kabhi mazmoom jaise Yaf-olu.

Note: Sometime in present tense the third letter comes with zair or zabar or pesh sometimes.

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help or will be helping	وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا	Yansuru	يَنْصُرُ
They both will help or will be helping	وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Yansuraani	يَنْصُرَانِ
They all will help or will be helping	وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Yansuroona	يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help or will be helping	وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی	Tansuru	تَنْصُرُ
They both will help or will be helping	وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
They all will help or will be helping	وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی	Yansurna	يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help or will be helping	تو مدد کرتا ہے یا کرے گا	Tansuru	تَنْصُرُ
You both will help or will be helping	تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
You all will help or will be helping	تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے	Tansuroona	تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help or will be helping	تو مدد کرتی ہے یا کرے گی	Tansureena	تَنْصُرِينَ
You both will help or will be helping	تم دونوں مدد کرتی ہو یا کرو گی	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
You all will help or will be helping	تم سب مدد کرتی ہو یا کرو گی	Tansurna	تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will help or I will be helping	میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا	Ansuru	أَنْصُرُ
We will help or we will be helping	ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Nansuru	نَنْصُرُ

تصریف فعل مضارع ”مجهول“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is being helped or will be helped	وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	Yunsaru	يُنصَرُ
They both are being helped or will be helped	وہ دونوں مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Yunsaraani	يُنصَرَانِ
They all are being helped or will be helped	وہ سب مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Yunsaroonā	يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is being helped or will be helped	وہ مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	Tunsaru	تُنصَرُ
They both are being helped or will be helped	وہ دونوں مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
They all are being helped or will be helped	وہ سب مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	Yunsarna	يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are being helped or will be helped	تو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	Tunsaru	تُنصَرُ
You both are being helped or will be helped	تم دونوں مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
You all are being helped or will be helped	تم سب مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	Tunsaroonā	تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are being helped or will be helped	تو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	Tunsareena	تُنصَرِينَ
You both are being helped or will be helped	تم دونوں مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
You all are being helped or will be helped	تم سب مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	Tunsarna	تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am being helped or will be helped	میں مدد کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا	Unsaru	أُنصَرُ
We are being helped or will be helped	ہم مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Nunsaru	نُنصَرُ

تصريف فعل مضارع "معروف منفی"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is not helping or will not help	وہ مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا	Laa Yansuru	لَا يَنْصُرُ
They both are not helping or will not help	وہ دونوں مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Yansuraani	لَا يَنْصُرَانِ
They all are not helping or will not help	وہ سب مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Yansuroona	لَا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is not helping or will not help	وہ مدد نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی	Laa Tansuru	لَا تَنْصُرُ
They both are not helping or will not help	وہ دونوں مدد نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
They all are not helping or will not help	وہ سب مدد نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی	Laa Yansurna	لَا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are not helping or will not help	تو مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا	Laa Tansuru	لَا تَنْصُرُ
You both are not helping or will not help	تم دونوں مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
You all are not helping or will not help	تم سب مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے	Laa Tansuroona	لَا تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are not helping or will not help	تو مدد نہیں کی کرتی ہے یا نہیں کرے گی	Laa Tansureena	لَا تَنْصُرِينَ
You both are not helping or will not help	تم دونوں مدد نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
You all are not helping or will not help	تم سب مدد نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی	Laa Tansurna	لَا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am not helping or will not help	میں مدد نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا	Laa Ansuru	لَا اَنْصُرُ
We are not helping or will not help	ہم مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Nansuru	لَا نَنْصُرُ

تصریف فعل مضارع ”مجہول منفی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is not being helped or will not be helped	وہ مدد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا	Laa Yunsaru	لَا يُنصَرُ
They both are not being helped or will not be helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Yunsaraani	لَا يُنصَرَانِ
They all are not being helped or will not be helped	وہ سب مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Yunsaroonaa	لَا يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is not being helped or will not be helped	وہ مدد نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی	Laa Tunsaru	لَا تُنصَرُ
They both are not being helped or will not be helped	وہ دونوں مدد نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
They all are not being helped or will not be helped	وہ سب مدد نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی	Laa Yunsarna	لَا يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are not being helped or will not be helped	تو مدد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا	Laa Tunsaru	لَا تُنصَرُ
You both are not being helped or will not be helped	تم دونوں مدد نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
You all are not being helped or will not be helped	تم سب مدد نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے	Laa Tunsaroonaa	لَا تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are not being helped or will not be helped	تو مدد نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی	Laa Tunsareena	لَا تُنصَرِينَ
You both are not being helped or will not be helped	تم دونوں مدد نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گی	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
You all are not being helped or will not be helped	تم سب مدد نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گی	Laa Tunsarna	لَا تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am not being helped or will not be helped	میں مدد نہیں کیا جاتا ہوں یا نہیں کیا جاؤں گا	Laa Unsaru	لَا أُنصَرُ
We are not being helped or will not be helped	ہم مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Nunsaru	لَا نُنصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف ب كان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He used to help	وہ مدد کرتا تھا	Kaana Yansuru	كَانَ يَنْصُرُ
They both used to help	وہ دونوں مدد کرتے تھے	Kaanaa Yansuraani	كَانَا يَنْصُرَانِ
They all used to help	وہ سب مدد کرتے تھے	Kaanoo Yansuroona	كَانُوا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She used to help	وہ مدد کرتی تھی	Kaanat Tansuru	كَانَتْ تَنْصُرُ
They both used to help	وہ دونوں مدد کرتی تھیں	Kaanataa Tansuraani	كَانَتَا تَنْصُرَانِ
They all used to help	وہ سب مدد کرتی تھیں	Kunna Yansurna	كَانَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You used to help	تو مدد کرتا تھا	Kunta Tansuru	كُنْتَ تَنْصُرُ
You both used to help	تم دونوں مدد کرتے تھے	Kuntumaa Tansuraani	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
You all used to help	تم سب مدد کرتے تھے	Kuntum Tansuroona	كُنْتُمْ تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You used to help	تو مدد کرتی تھی	Kunti Tansureena	كُنْتِ تَنْصُرِينَ
You both used to help	تم دونوں مدد کرتی تھیں	Kuntumaa Tansuraani	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
You all used to help	تم سب مدد کرتی تھیں	Kuntunna Tansurna	كُنْتُنَّ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I used to help	میں مدد کرتا تھا	Kuntu Ansuru	كُنْتُ أَنْصُرُ
We used to help	ہم مدد کرتے تھے	Kunna Nansuru	كُنَّا نَنْصُرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول ب كان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He was being helped	وہ مدد کیا جاتا تھا	Kaana Yunsaru	كَانَ يُنصَرُ
They both were being helped	وہ دونوں مدد کیے جاتے تھے	Kaanaa Yunsaraani	كَانَا يُنصَرَانِ
They all were being helped	وہ سب مدد کیے جاتے تھے	Kaanoo Yunsaroonaa	كَانُوا يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She was being helped	وہ مدد کی جاتی تھی	Kaanat Tunsaru	كَانَتْ تُنصَرُ
They both were being helped	وہ دونوں مدد کی جاتی تھیں	Kaanataa Tunsaraani	كَانَتَا تُنصَرَانِ
They all were being helped	وہ سب مدد کی جاتی تھیں	Kunna Yunsarna	كَانَ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You were being helped	تو مدد کیا جاتا تھا	Kunta Tunsaru	كُنْتَ تُنصَرُ
You both were being helped	تم دونوں مدد کیے جاتے تھے	Kuntumaa Tunsaraani	كُنْتُمَا تُنصَرَانِ
You all were being helped	تم سب مدد کیے جاتے تھے	Kuntum Tunsaroonaa	كُنْتُمْ تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You were being helped	تو مدد کی جاتی تھی	Kunti Tunsareena	كُنْتِ تُنصَرِينَ
You both were being helped	تم دونوں مدد کی جاتی تھیں	Kuntumaa Tunsaraani	كُنْتُمَا تُنصَرَانِ
You all were being helped	تم سب مدد کی جاتی تھیں	Kuntunna Tunsarna	كُنْتِنَّ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I was being helped	میں مدد کیا جاتا تھا	Kuntu Unsaru	كُنْتُ أَنْصَرُ
We were being helped	ہم مدد کیے جاتے تھے	Kunnaa Nunsaru	كُنَّا أَنْصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف بلام مفتوح"

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will help	البتہ وہ مدد کرتا ہے	La-Yansuru	لَيَنْصُرُ
However they both will help	البتہ وہ دونوں مدد کرتے ہیں	La-Yansuraani	لَيَنْصُرَانِ
However they all will help	البتہ وہ سب مدد کرتے ہیں	La-Yansuroona	لَيَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will help	البتہ وہ مدد کرتی ہے	La-Tansuru	لَتَنْصُرُ
However they both will help	البتہ وہ دونوں مدد کرتی ہیں	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However they all will help	البتہ وہ سب مدد کرتی ہیں	La-Yansurna	لَيَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will help	البتہ تو مدد کرتا ہے	La-Tansuru	لَتَنْصُرُ
However you both will help	البتہ تم دونوں مدد کرتے ہو	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However you all will help	البتہ تم سب مدد کرتے ہو	La-Tansuroona	لَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will help	البتہ تو مدد کرتی ہے	La-Tansureena	لَتَنْصُرِينَ
However you both will help	البتہ تم دونوں مدد کرتی ہو	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However you all will help	البتہ تم سب مدد کرتی ہو	La-Tansurna	لَتَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will help	البتہ میں مدد کرتا ہوں	La-Ansuru	لَاَنْصُرُ
However we will help	البتہ ہم سب مدد کرتے ہیں	La-Nansuru	لَنْصُرُ

تصريف فعل مضارع ”مجهول بلام مفتوح“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he is being helped	البتہ وہ مدد کیا جاتا ہے	La-Yunsaro	لَيُنصَرُ
However they both are being helped	البتہ وہ دونوں مدد کیے جاتے ہیں	La-Yunsaraani	لَيُنصَرَانِ
However they all are being helped	البتہ وہ سب مدد کیے جاتے ہیں	La-Yunsaroonā	لَيُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she is being helped	البتہ وہ مدد کی جاتی ہے	La-Tunsaru	لَتُنصَرُ
However they both are being helped	البتہ وہ دونوں مدد کی جاتی ہیں	La-Tunsaraani	لَتُنصَرَانِ
However they all are being helped	البتہ وہ سب مدد کی جاتی ہیں	La-Yunsarna	لَيُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you are being helped	البتہ تو مدد کیا جاتا ہے	La-Tunsaru	لَتُنصَرُ
However you both are being helped	البتہ تم دونوں مدد کیے جاتے ہو	La-Tunsaraani	لَتُنصَرَانِ
However you all are being helped	البتہ تم سب مدد کیے جاتے ہو	La-Tunsaroonā	لَتُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you are being helped	البتہ تو مدد کی جاتی ہے	La-Tunsareena	لَتُنصَرِينَ
However you both are being helped	البتہ تم دونوں مدد کی جاتی ہو	La-Tunsaraani	لَتُنصَرَانِ
However you all are being helped	البتہ تم سب مدد کی جاتی ہو	La-Tunsarna	لَتُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I am being helped	البتہ میں مدد کیا جاتا ہوں	La-Unsaru	لَاُنصَرُ
However we are being helped	البتہ ہم سب مدد کیے جاتے ہیں	La-Nunsaru	لَنُنصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”معروف ب سین“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help soon	وہ عنقریب مدد کرے گا	Sa-Yansuru	سَيَنْصُرُ
They both will help soon	وہ دونوں عنقریب مدد کریں گے	Sa-Yansuraani	سَيَنْصُرَانِ
They all will help soon	وہ سب عنقریب مدد کریں گے	Sa-Yansuroona	سَيَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help soon	وہ عنقریب مدد کرے گی	Sa-Tansuru	سَتَنْصُرُ
They both will help soon	وہ دونوں عنقریب مدد کریں گی	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
They all will help soon	وہ سب عنقریب مدد کریں گی	Sa-Yansurna	سَيَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help soon	تو عنقریب مدد کرے گا	Sa-Tansuru	سَتَنْصُرُ
You both will help soon	تم دونوں عنقریب مدد کرو گے	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
You all will help soon	تم سب عنقریب مدد کرو گے	Sa-Tansuroona	سَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help soon	تو عنقریب مدد کرے گی	Sa-Tansureena	سَتَنْصُرِينَ
You both will help soon	تم دونوں عنقریب مدد کرو گی	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
You all will help soon	تم سب عنقریب مدد کرو گی	Sa-Tansurna	سَتَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will help soon	میں عنقریب مدد کروں گا	Sa-Ansuru	سَأَنْصُرُ
We will help soon	ہم سب عنقریب مدد کریں گے	Sa-Nansuru	سَنَنْصُرُ

تصريف فعل مضارع ”مجهول ب سين“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Soon he will be helped	وہ عنقریب مدد کیا جائے گا	Sa-Yunsaru	سَيُنصَرُ
Soon they both will be helped	وہ دونوں عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Yunsaraani	سَيُنصَرَانِ
Soon they all will be helped	وہ سب عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Yunsaroonā	سَيُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Soon she will be helped	وہ عنقریب مدد کی جائے گی	Sa-Tunsaru	سَتُنصَرُ
Soon they both will be helped	وہ دونوں عنقریب مدد کی جائیں گی	Sa-Tunsaraani	سَتُنصَرَانِ
Soon they all will be helped	وہ سب عنقریب مدد کی جائیں گی	Sa-Yunsarna	سَيُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Soon you will be helped	تو عنقریب مدد کیا جائے گا	Sa-Tunsaru	سَتُنصَرُ
Soon you both will be helped	تم دونوں عنقریب مدد کیے جاؤ گے	Sa-Tunsaraani	سَتُنصَرَانِ
Soon you all will be helped	تم سب عنقریب مدد کیے جاؤ گے	Sa-Tunsaroonā	سَتُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Soon you will be helped	تو عنقریب مدد کی جائے گی	Sa-Tunsareena	سَتُنصَرِينَ
Soon you both will be helped	تم دونوں عنقریب مدد کی جاؤ گی	Sa-Tunsaraani	سَتُنصَرَانِ
Soon you all will be helped	تم سب عنقریب مدد کی جاؤ گی	Sa-Tunsarna	سَتُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Soon I will be helped	میں عنقریب مدد کیا جاؤں گا	Sa-Unsaru	سَأُنصَرُ
Soon we will be helped	ہم عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Nunsaru	سَنُنصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”معروف ب سوف“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کرے گا	Saufa-Yansuru	سَوْفَ يَنْصُرُ
They both will help after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Yansuraani	سَوْفَ يَنْصُرَانِ
They all will help after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Yansuroona	سَوْفَ يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کرے گی	Saufa-Tansuru	سَوْفَ تَنْصُرُ
They both will help after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کریں گی	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
They all will help after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کریں گی	Saufa-Yansurna	سَوْفَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کرے گا	Saufa-Tansuru	سَوْفَ تَنْصُرُ
You both will help after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کرو گے	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
You all will help after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کرو گے	Saufa-Tansuroona	سَوْفَ تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کرے گی	Saufa-Tansureena	سَوْفَ تَنْصُرِينَ
You both will help after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کرو گی	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
You all will help after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کرو گی	Saufa-Tansurna	سَوْفَ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will help after some time	میں تھوڑی دیر بعد مدد کروں گا	Saufa-Ansuru	سَوْفَ أَنْصُرُ
We will help after some time	ہم تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Nansuru	سَوْفَ نَنْصُرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”مجهول ب سوف“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will be helped after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کیا جائے گا	Saufa-Yunsaru	سَوْفَ يُنصَرُ
They both will be helped after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsaraani	سَوْفَ يُنصَرَانِ
They all will be helped after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsaroonā	سَوْفَ يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will be helped after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کی جائے گی	Saufa-Tunsaru	سَوْفَ تُنصَرُ
They both will be helped after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَرَانِ
They all will be helped after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsarna	سَوْفَ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will be helped after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کیا جائے گا	Saufa-Tunsaru	سَوْفَ تُنصَرُ
You both will be helped after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جاؤ گے	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَرَانِ
You all will be helped after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جاؤ گے	Saufa-Tunsaroonā	سَوْفَ تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will be helped after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کی جائے گی	Saufa-Tunsareena	سَوْفَ تُنصَرِينَ
You both will be helped after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کی جاؤ گی	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَرَانِ
You all will be helped after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کی جاؤ گی	Saufa-Tunsarna	سَوْفَ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will be helped after some time	میں تھوڑی دیر بعد مدد کیا جاؤں گا	Saufa-Unsaru	سَوْفَ أُنصَرُ
We will be helped after some time	ہم تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Nunsaru	سَوْفَ نُنصَرُ

ناصبہ

Naasibah

أن / لن / كي / إذن

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”معروف منصوب ب آن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
That he will help	کہ وہ مدد کرے	An Yansura	أَنْ يَنْصُرَ
That they both will help	کہ وہ دونوں مدد کریں	An Yansuraa	أَنْ يَنْصُرَا
That they all will help	کہ وہ سب مدد کریں	An Yansuroo	أَنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
That she will help	کہ وہ مدد کرے	An Tansura	أَنْ تَنْصُرَ
That they both will help	کہ وہ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That they all will help	کہ وہ سب مدد کریں	An Yansurna	أَنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
That you will help	کہ آپ مدد کریں	An Tansura	أَنْ تَنْصُرَ
That you both will help	کہ آپ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That you all will help	کہ آپ سب مدد کریں	An Tansuroo	أَنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
That you will help	کہ آپ مدد کریں	An Tansuree	أَنْ تَنْصُرِي
That you both will help	کہ آپ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That you all will help	کہ آپ سب مدد کریں	An Tansurna	أَنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
That i will help	کہ میں مدد کروں	An Ansura	أَنْ أَنْصُرَ
That we will help	کہ ہم مدد کریں	An Nansura	أَنْ نَنْصُرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب ان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
That he will be helped	کہ وہ مدد کیا جائے	An Yunsara	أَنْ يُنصَرَ
That they both will be helped	کہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	An Yunsaraa	أَنْ يُنصَرَآ
That they all will be helped	کہ وہ سب مدد کیے جائیں	An Yunsaroo	أَنْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
That she will be helped	کہ وہ عورت مدد کی جائے	An Tunsara	أَنْ تُنصَرَ
That they both will be helped	کہ وہ دو عورتیں مدد کی جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That they all will be helped	کہ وہ سب عورتیں مدد کی جائیں	An Yunsarna	أَنْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
That you will be helped	کہ آپ مدد کیے جائیں	An Tunsara	أَنْ تُنصَرَ
That you both will be helped	کہ آپ دونوں مدد کیے جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That you all will be helped	کہ آپ سب مدد کیے جائیں	An Tunsaroo	أَنْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
That you will be helped	کہ آپ مدد کی جائیں	An Tunsaree	أَنْ تُنصَرِي
That you both will be helped	کہ آپ دونوں مدد کی جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That you all will be helped	کہ آپ سب مدد کی جائیں	An Tunsarna	أَنْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
That i will be helped	کہ میں مدد کیا جاؤں	An Unsara	أَنْ أُنصَرَ
That we will be helped	کہ ہم مدد کیے جائیں	An Nunsara	أَنْ نُنصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف منصوب ب لن"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will never help	وہ ہر گز مدد نہیں کرے گا	Lan Yansura	لَنْ يَنْصُرَ
They both will never help	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کریں گے	Lan Yansuraa	لَنْ يَنْصُرَا
They all will never help	وہ سب ہر گز مدد نہیں کریں گے	Lan Yansuroo	لَنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will never help	وہ ہر گز مدد نہیں کرے گی	Lan Tansura	لَنْ تَنْصُرَ
They both will never help	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کریں گی	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
They all will never help	وہ سب ہر گز مدد نہیں کریں گی	Lan Yansurna	لَنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will never help	تو ہر گز مدد نہیں کرے گا	Lan Tansura	لَنْ تَنْصُرَ
You both will never help	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کرو گے	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
You all will never help	تم سب ہر گز مدد نہیں کرو گے	Lan Tansuroo	لَنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will never help	تو ہر گز مدد نہیں کرے گی	Lan Tansuree	لَنْ تَنْصُرِي
You both will never help	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کرو گی	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
You all will never help	تم سب ہر گز مدد نہیں کرو گی	Lan Tansurna	لَنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I will never help	میں ہر گز مدد نہیں کروں گا	Lan Ansura	لَنْ اَنْصُرَ
We will never help	ہم ہر گز مدد نہیں کریں گے	Lan Nansura	لَنْ نَنْصُرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب لن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will never be helped	وہ ہر گز مدد نہیں کیا جائے گا	Lan Yunsara	لَنْ يُنصَرَ
They both will never be helped	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Yunsaraa	لَنْ يُنصَرَآ
They all will never be helped	وہ سب ہر گز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Yunsaroo	لَنْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will never be helped	وہ ہر گز مدد نہیں کی جائے گی	Lan Tunsara	لَنْ تُنصَرَ
They both will never be helped	وہ دونوں ہر گز مدد نہیں کی جائیں گی	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
They all will never be helped	وہ سب ہر گز مدد نہیں کی جائیں گی	Lan Yunsarna	لَنْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will never be helped	تو ہر گز مدد نہیں کیا جائے گا	Lan Tunsara	لَنْ تُنصَرَ
You both will never be helped	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کیے جاؤ گے	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
You all will never be helped	تم سب ہر گز مدد نہیں کیے جاؤ گے	Lan Tunsaroo	لَنْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will never be helped	تو ہر گز مدد نہیں کی جائے گی	Lan Tunsaree	لَنْ تُنصَرِي
You both will never be helped	تم دونوں ہر گز مدد نہیں کی جاؤ گی	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
You all will never be helped	تم سب ہر گز مدد نہیں کی جاؤ گی	Lan Tunsarna	لَنْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will never be helped	میں ہر گز مدد نہیں کیا جاؤں گا	Lan Unsara	لَنْ اُنصَرَ
We will never be helped	ہم ہر گز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Nunsara	لَنْ نُنصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes
تصریف فعل مضارع ”معروف منصوب ب کی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
So that he will help	تاکہ وہ مدد کرے	Kai Yansura	کئی یَنْصُرُ
So that they both will help	تاکہ وہ دونوں مدد کریں	Kai Yansuraa	کئی یَنْصُرَا
So that they all will help	تاکہ وہ سب مدد کریں	Kai Yansuroo	کئی یَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
So that she will help	تاکہ وہ مدد کرے	Kai Tansura	کئی تَنْصُرُ
So that they both will help	تاکہ وہ دونوں مدد کریں	Kai Tansuraa	کئی تَنْصُرَا
So that they all will help	تاکہ وہ سب مدد کریں	Kai Yansurna	کئی یَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
So that you will help	تاکہ تو مدد کرے	Kai Tansura	کئی تَنْصُرُ
So that you both will help	تاکہ تم دونوں مدد کرو	Kai Tansuraa	کئی تَنْصُرَا
So that you all will help	تاکہ تم سب مدد کرو	Kai Tansuroo	کئی تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
So that you will help	تاکہ تو مدد کرے	Kai Tansuree	کئی تَنْصُرِي
So that you both will help	تاکہ تم دونوں مدد کرو	Kai Tansuraa	کئی تَنْصُرَا
So that you all will help	تاکہ تم سب مدد کرو	Kai Tansurna	کئی تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
So that I will help	تاکہ میں مدد کروں	Kai Ansura	کئی اَنْصُرُ
So that we will help	تاکہ ہم مدد کریں	Kai Nansura	کئی نَنْصُرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”مجہول منصوب ب کی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
So that he will be helped	تاکہ وہ مدد کیا جائے	Kai Yunsara	کَیْ یُنْصَرِّ
So that they both will be helped	تاکہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	Kai Yunsaraa	کَیْ یُنْصَرِّا
So that they all will be helped	تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں	Kai Yunsaroo	کَیْ یُنْصَرِّوَا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
So that she will be helped	تاکہ وہ مدد کی جائے	Kai Tunsara	کَیْ تُنْصَرِّ
So that they both will be helped	تاکہ وہ دونوں مدد کی جائیں	Kai Tunsaraa	کَیْ تُنْصَرِّا
So that they all will be helped	تاکہ وہ سب مدد کی جائیں	Kai Yunsarna	کَیْ یُنْصَرِّوَنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
So that you will be helped	تاکہ تو مدد کیا جائے	Kai Tunsara	کَیْ تُنْصَرِّ
So that you both will be helped	تاکہ تم دونوں مدد کیے جاؤ	Kai Tunsaraa	کَیْ تُنْصَرِّا
So that you all will be helped	تاکہ تم سب مدد کیے جاؤ	Kai Tunsaroo	کَیْ تُنْصَرِّوَا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
So that you will be helped	تاکہ تو مدد کی جائے	Kai Tunsaree	کَیْ تُنْصَرِّی
So that you both will be helped	تاکہ تم دونوں مدد کی جاؤ	Kai Tunsaraa	کَیْ تُنْصَرِّا
So that you all will be helped	تاکہ تم سب مدد کی جاؤ	Kai Tunsarna	کَیْ تُنْصَرِّوَنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
So that I will be helped	تاکہ میں مدد کیا جاؤں	Kai Unsara	کَیْ اُنْصَرِّ
So that we will be helped	تاکہ ہم مدد کیے جائیں	Kai Nunsara	کَیْ نُنْصَرِّ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف منصوب ب اذن"

3rd Person Male		غائب مذکر	
Then he will help	تب تو وہ مدد کرے گا	Izan Yansura	إِذْنَ يَنْصُرْ
Then they both will help	تب تو وہ دونوں مدد کریں گے	Izan Yansuraa	إِذْنَ يَنْصُرَا
Then they all will help	تب تو وہ سب مدد کریں گے	Izan Yansuroo	إِذْنَ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Then she will help	تب تو وہ مدد کرے گی	Izan Tansura	إِذْنَ تَنْصُرْ
Then they both will help	تب تو وہ دونوں مدد کریں گی	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then they all will help	تب تو وہ سب مدد کریں گی	Izan Yansurna	إِذْنَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Then you will help	تب تو تو مدد کرے گا	Izan Tansura	إِذْنَ تَنْصُرْ
Then you both will help	تب تو تم دونوں مدد کرو گے	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then you all will help	تب تو تم سب مدد کرو گے	Izan Tansuroo	إِذْنَ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Then you will help	تب تو تو مدد کرے گی	Izan Tansuree	إِذْنَ تَنْصُرِي
Then you both will help	تب تو تم دونوں مدد کرو گی	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then you all will help	تب تو تم سب مدد کرو گی	Izan Tansurna	إِذْنَ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
Then I will help	تب تو میں مدد کروں گا	Izan Ansura	إِذْنَ أَنْصُرْ
Then we will help	تب تو ہم مدد کریں گے	Izan Nansura	إِذْنَ نَنْصُرْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب اذن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Then he will be helped	تب تو وہ مدد کیا جائے گا	Izan Yunsara	إِذَنْ يُنْصَرَ
Then they both will be helped	تب تو وہ دونوں مدد کیے جائیں گے	Izan Yunsaraa	إِذَنْ يُنْصَرَا
Then they all will be helped	تب تو وہ سب مدد کیے جائیں گے	Izan Yunsaroo	إِذَنْ يُنْصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Then she will be helped	تب تو وہ مدد کی جائے گی	Izan Tunsara	إِذَنْ تُنْصَرَ
Then they both will be helped	تب تو وہ دونوں مدد کی جائیں گی	Izan Tunsaraa	إِذَنْ تُنْصَرَا
Then they all will be helped	تب تو وہ سب مدد کی جائیں گی	Izan Yunsarna	إِذَنْ يُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Then you will be helped	تب تو مدد کیا جائے گا	Izan Tunsara	إِذَنْ تُنْصَرَ
Then you both will be helped	تب تو تم دونوں مدد کیے جاؤ گے	Izan Tunsaraa	إِذَنْ تُنْصَرَا
Then you all will be helped	تب تو تم سب مدد کیے جاؤ گے	Izan Tunsaroo	إِذَنْ تُنْصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Then you will be helped	تب تو مدد کی جائے گی	Izan Tunsaree	إِذَنْ تُنْصَرِي
Then you both will be helped	تب تو تم دونوں مدد کی جاؤ گی	Izan Tunsaraa	إِذَنْ تُنْصَرَا
Then you all will be helped	تب تو تم سب مدد کی جاؤ گی	Izan Tunsarna	إِذَنْ تُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Then I will be helped	تب تو میں مدد کیا جاؤں گا	Izan Unsara	إِذَنْ أُنْصَرَ
Then we will be helped	تب تو ہم مدد کیے جائیں گے	Izan Nunsara	إِذَنْ نُنْصَرَ

جازمة

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Jaazimah

إِنْ / لَمْ / لَمَّا / لام الأمر / لا الناهية

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل "مضارع معروف مجزوم ب ان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
If he will help	اگر وہ مدد کرے گا	In Yansur	إِنْ يَنْصُرْ
If they both will help	اگر وہ دونوں مدد کریں گے	In Yansuraa	إِنْ يَنْصُرَا
If they all will help	اگر وہ سب مدد کریں گے	In Yansuroo	إِنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
If she will help	اگر وہ مدد کرے گی	In Tansur	إِنْ تَنْصُرْ
If they both will help	اگر وہ دونوں مدد کریں گی	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If they all will help	اگر وہ سب مدد کریں گی	In Yansurna	إِنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
If you will help	اگر تو مدد کرے گا	In Tansur	إِنْ تَنْصُرْ
If you both will help	اگر تم دونوں مدد کرو گے	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If you all will help	اگر تم سب مدد کرو گے	In Tansuroo	إِنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
If you will help	اگر تو مدد کرے گی	In Tansuree	إِنْ تَنْصُرِي
If you both will help	اگر تم دونوں مدد کرو گی	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If you all will help	اگر تم سب مدد کرو گی	In Tansurna	إِنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
If I will help	اگر میں مدد کروں گا	In Ansur	إِنْ أَنْصُرْ
If we will help	اگر ہم مدد کریں گے	In Nansur	إِنْ نَنْصُرْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "مجهول مجزوم ب ان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
If he will be helped	اگر وہ مدد کیا جائے گا	In Yunsar	إِنْ يُنْصَرَ
If they both will be helped	اگر وہ دونوں مدد کیے جائیں گے	In Yunsaraa	إِنْ يُنْصَرَا
If they all will be helped	اگر وہ سب مدد کیے جائیں گے	In Yunsaroo	إِنْ يُنْصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
If she will be helped	اگر وہ مدد کی جائے گی	In Tunsar	إِنْ تُنْصَرَ
If they both will be helped	اگر وہ دونوں مدد کی جائیں گی	In Tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If they all will be helped	اگر وہ سب مدد کی جائیں گی	In Yunsarna	إِنْ يُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
If you will be helped	اگر تو مدد کیا جائے گا	In Tunsar	إِنْ تُنْصَرَ
If you both will be helped	اگر تم دونوں مدد کیے جاؤ گے	In tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If you all will be helped	اگر تم سب مدد کیے جاؤ گے	In Tunsaroo	إِنْ تُنْصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
If you will be helped	اگر تو مدد کی جائے گی	In Tunsaree	إِنْ تُنْصَرِي
If you both will be helped	اگر تم دونوں مدد کی جاؤ گی	In Tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If you all will be helped	اگر تم سب مدد کی جاؤ گی	In Tunsarna	إِنْ تُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
If I will be helped	اگر میں مدد کیا جاؤں گا	In Unsar	إِنْ أُنْصَرَ
If we will be helped	اگر ہم مدد کیے جائیں گے	In Nunsar	إِنْ نُنْصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لم"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't help	اس نے مدد نہیں کی	Lam Yansur	لَمْ يَنْصُرْ
They both didn't help	ان دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Yansuraa	لَمْ يَنْصُرَا
They all didn't help	ان سب نے مدد نہیں کی	Lam Yansuroo	لَمْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't help	اس نے مدد نہیں کی	Lam Tansur	لَمْ تَنْصُرْ
They both didn't help	ان دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
They all didn't help	ان سب نے مدد نہیں کی	Lam Yansurna	لَمْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't help	تو نے مدد نہیں کی	Lam Tansur	لَمْ تَنْصُرْ
You both didn't help	تم دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
You all didn't help	تم سب نے مدد نہیں کی	Lam Tansuroo	لَمْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't help	تو نے مدد نہیں کی	Lam Tansuree	لَمْ تَنْصُرِي
You both didn't help	تم دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
You all didn't help	تم سب نے مدد نہیں کی	Lam Tansurna	لَمْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I didn't help	میں نے مدد نہیں کی	Lam Ansur	لَمْ أَنْصُرْ
We didn't help	ہم نے مدد نہیں کی	Lam Nansur	لَمْ نَنْصُرْ

تصریف فعل مضارع ”مجہول مجزوم ب لم“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He wasn't helped	وہ مدد نہیں کیا گیا	Lam Yunsar	لَمْ يُنصَرَ
They both weren't helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے	Lam Yunsaraa	لَمْ يُنصَرَا
They all weren't helped	وہ سب مدد نہیں کیے گئے	Lam Yunsaroo	لَمْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She wasn't helped	وہ مدد نہیں کی گئی	Lam Tunsar	لَمْ تُنصَرَ
They both weren't helped	وہ دونوں مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
They all weren't helped	وہ سب مدد نہیں کی گئیں	Lam Yunsarna	لَمْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You wasn't helped	تو مدد نہیں کیا گیا	Lam Tunsar	لَمْ تُنصَرَ
You both weren't helped	تم دونوں مدد نہیں کیے گئے	Lam tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
You all weren't helped	تم سب مدد نہیں کیے گئے	Lam Tunsaroo	لَمْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You wasn't helped	تو مدد نہیں کی گئی	Lam Tunsaree	لَمْ تُنصَرِي
You both weren't helped	تم دونوں مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
You all weren't helped	تم سب مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsarna	لَمْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I wasn't helped	میں مدد نہیں کیا گیا	Lam Unsar	لَمْ أُنصَرَ
We weren't helped	ہم مدد نہیں کیے گئے	Lam Nunsar	لَمْ نُنصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لملا"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't help yet	اس نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansur	لَمَّا يَنْصُرْ
They both didn't help yet	ان دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansuraa	لَمَّا يَنْصُرَا
They all didn't help yet	ان سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansuroo	لَمَّا يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't help yet	اس نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansur	لَمَّا تَنْصُرْ
They both didn't help yet	ان دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
They all didn't help yet	ان سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansurna	لَمَّا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't help yet	تو نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansur	لَمَّا تَنْصُرْ
You both didn't help yet	تم دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
You all didn't help yet	تم سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuroo	لَمَّا تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't help yet	تو نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuree	لَمَّا تَنْصُرِي
You both didn't help yet	تم دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
You all didn't help yet	تم سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansurna	لَمَّا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I didn't help yet	میں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Ansur	لَمَّا أَنْصُرْ
We didn't help yet	ہم نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Nansur	لَمَّا نَنْصُرْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لملا“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He wasn't helped yet	وہ ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Yunsar	لَمَّا يُنْصَرُ
They both weren't helped yet	وہ دونوں ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Yunsaraa	لَمَّا يُنْصَرَا
They all weren't helped yet	وہ سب ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Yunsaroo	لَمَّا يُنْصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She wasn't helped yet	وہ ابھی تک مدد نہیں کی گئی	Lammaa Tunsar	لَمَّا تُنْصَرُ
They both weren't helped yet	وہ دونوں ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
They all weren't helped yet	وہ سب ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Yunsarna	لَمَّا يُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You wasn't helped yet	تو ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Tunsar	لَمَّا تُنْصَرُ
You both weren't helped yet	تم دونوں ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
You all weren't helped yet	تم سب ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Tunsaroo	لَمَّا تُنْصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You wasn't helped yet	تو ابھی تک مدد نہیں کی گئی	Lammaa Tunsaree	لَمَّا تُنْصَرِي
You both weren't helped yet	تم دونوں ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
You all weren't helped yet	تم سب ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsarna	لَمَّا تُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I wasn't helped yet	میں ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Unsar	لَمَّا أُنْصَرُ
We weren't helped yet	ہم ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Nunsar	لَمَّا نُنْصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لام امر"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He must/should help	چاہیے کہ وہ مدد کرے	Li- Yansur	لَيَنْصُرْ
They must/should help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کریں	Li- Yansuraa	لَيَنْصُرَا
They must/should help	چاہیے کہ وہ سب مدد کریں	Li- Yansuroo	لَيَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She must/should help	چاہیے کہ وہ مدد کرے	Li- Tansur	لَتَنْصُرْ
They must/should help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کریں	Li- Tansuraa	لَتَنْصُرَا
They must/should help	چاہیے کہ وہ سب مدد کریں	Li- Yansurna	لَيَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I must help	چاہیے کہ میں مدد کروں	Li- Ansur	لَاَنْصُرْ
We must help	چاہیے کہ ہم سب مدد کریں	Li- Nansur	لَنْصُرْ

تصریف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لام امر“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He must/should be helped	چاہیے کہ وہ مدد کیا جائے	Li- Yunsar	لِيُنصَرَ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	Li- Yunsaraa	لِيُنصَرَآ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد کیے جائیں	Li- Yunsaroo	لِيُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She must/should be helped	چاہیے کہ وہ مدد کی جائے	Li- Tunsar	لِيُنصَرَ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کی جائیں	Li- Tunsaraa	لِيُنصَرَآ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد کی جائیں	Li- Yunsarna	لِيُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I must help be helped	چاہیے کہ میں مدد کیا جاؤں	Li- Unsar	لَاُنصَرَ
We must help be helped	چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں	Li- Nunsar	لَاُنصَرَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لام نھی"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He shouldn't help	چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے	Laa Yansur	لَا يَنْصُرُ
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کریں	Laa Yansuraa	لَا يَنْصُرُوا
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کریں	Laa Yansuroo	لَا يَنْصُرُوْا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She shouldn't help	چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے	Laa Tansur	لَا تَنْصُرُ
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کریں	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرَا
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کریں	Laa Yansurna	لَا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You shouldn't help	تو مدد نہ کر	Laa Tansur	لَا تَنْصُرُ
You shouldn't help	تم دونوں مدد مت کرو	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرَا
You shouldn't help	تم سب مدد مت کرو	Laa Tansuroo	لَا تَنْصُرُوْا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You shouldn't help	تو مدد نہ کر	Laa Tansuree	لَا تَنْصُرِيْ
You shouldn't help	تم دونوں مدد مت کرو	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرَا
You shouldn't help	تم سب مدد مت کرو	Laa Tansurna	لَا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I shouldn't help	چاہیے کہ میں مدد نہ کروں	Laa Ansur	لَا اَنْصُرُ
We shouldn't help	چاہیے کہ ہم مدد نہ کریں	Laa Nansur	لَا نَنْصُرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”مجہول مجزوم ب لام نھی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ مدد نہ کیا جائے	Laa Yunsar	لَا يُنصَرُ
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کیے جائیں	Laa Yunsaraa	لَا يُنصَرَا
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کیے جائیں	Laa Yunsaroo	لَا يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ مدد نہ کی جائے	Laa Tunsar	لَا تُنصَرُ
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کی جائیں	Laa Tunsaraa	لَا تُنصَرَا
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کی جائیں	Laa Yunsarna	لَا يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تو مدد نہ کیا جائے	Laa Tunsar	لَا تُنصَرُ
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم دونوں مدد نہ کیے جاؤ	Laa tunsaraa	لَا تُنصَرَا
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم سب مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsaroo	لَا تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تو مدد نہ کی جائے	Laa Tunsaree	لَا تُنصَرِي
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم دونوں مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsaraa	لَا تُنصَرَا
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم سب مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsarna	لَا تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I shouldn't be helped	چاہیے کہ میں مدد نہ کیا جاؤں	Laa Unsar	لَا أُنصَرُ
We shouldn't be helped	چاہیے کہ ہم مدد نہ کیے جائیں	Laa Nunsar	لَا نُنصَرُ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”معروف ب نون ثقیدہ“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will surely help	البتہ وہ ضرور مدد کرے گا	La-Yansuranna	لَيَنْصُرَنَّ
However they both will surely help	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کریں گے	La-Yansuraanni	لَيَنْصُرَانِ
However they all will surely help	البتہ وہ سب ضرور مدد کریں گے	La-Yansurunna	لَيَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will surely help	البتہ وہ ضرور مدد کرے گی	La-Tansuranna	لَتَنْصُرَنَّ
However they both will surely help	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کریں گی	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However they all will surely help	البتہ وہ سب ضرور مدد کریں گی	La-Yansurnaanni	لَيَنْصُرَنَّ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will surely help	البتہ تو ضرور مدد کرے گا	La-Tansuranna	لَتَنْصُرَنَّ
However you both will surely help	البتہ تم دونوں ضرور مدد کرو گے	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However you all will surely help	البتہ تم سب ضرور مدد کرو گے	La-Tansurunna	لَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will surely help	البتہ تو ضرور مدد کرے گی	La-Tansurinna	لَتَنْصُرَنَّ
However you both will surely help	البتہ تم دونوں ضرور مدد کرو گی	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However you all will surely help	البتہ تم سب ضرور مدد کرو گی	La-Tansurnaanni	لَتَنْصُرَنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will surely help	البتہ میں ضرور مدد کروں گا	La-Ansuranna	لَأَنْصُرَنَّ
However we will surely help	البتہ ہم ضرور مدد کریں گے	La-Nansuranna	لَنْصُرَنَّ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول ب نون ثقيله“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will be surely helped	البتہ وہ ضرور مدد کیا جائے گا	La-Yunsaranna	لَيُنْصَرَنَّ
However they both will be surely helped	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsaraanni	لَيُنْصَرَانِ
However they all will be surely helped	البتہ وہ سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsarunna	لَيُنْصَرُنَّ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will be surely helped	البتہ وہ ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsaranna	لَتُنْصَرَنَّ
However they both will be surely helped	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کی جائیں گی	La-Tunsaraanni	لَتُنْصَرَانِ
However they all will be surely helped	البتہ وہ سب ضرور مدد کی جائیں گی	La-Yunsarnaanni	لَيُنْصَرَانِ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will be surely helped	البتہ تو ضرور مدد کیا جائے گا	La-Tunsaranna	لَتُنْصَرَنَّ
However you both will be surely helped	البتہ تم دونوں ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsaraanni	لَتُنْصَرَانِ
However you all will be surely helped	البتہ تم سب ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsarunna	لَتُنْصَرُنَّ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will be surely helped	البتہ تو ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsarinna	لَتُنْصَرَنَّ
However you both will be surely helped	البتہ تم دونوں ضرور مدد کی جاؤ گی	La-Tunsaraanni	لَتُنْصَرَانِ
However you all will be surely helped	البتہ تم سب ضرور مدد کی جاؤ گی	La-tunsarnaanni	لَتُنْصَرَانِ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will be surely helped	البتہ میں ضرور مدد کیا جاؤں گا	La-Unsaranna	لَاُنْصَرَنَّ
However we will be surely helped	البتہ ہم سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Nunsaranna	لَنُنْصَرَنَّ

Arshad Basheer Madani Notes

تصریف فعل مضارع ”معروف ب نون خفیفہ“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will surely help	وہ ضرور مدد کرے گا	La-Yansuran	لَیَنْصُرُنْ
They will surely help	وہ سب ضرور مدد کریں گے	La-Yansurun	لَیَنْصُرُنْ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
You will surely help	وہ ضرور مدد کرے گی	La-Tansuran	لَتَنْصُرُنْ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will surely help	تو ضرور مدد کرے گا	La-Tansuran	لَتَنْصُرُنْ
You will surely help	تم سب ضرور مدد کرو گے	La-Tansurun	لَتَنْصُرُنْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will surely help	تو ضرور مدد کرے گی	La-Tansurin	لَتَنْصُرُنْ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will surely help	میں ضرور مدد کروں گا	La-Ansuran	لَأَنْصُرُنْ
We will surely help	ہم ضرور مدد کریں گے	La-Nansuran	لَنْصُرُنْ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل مضارع ”مجهول ب نون خفيفه“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will be surely helped	وہ ضرور مدد کیا جائے گا	La-Yunsaran	لَيُنصَرُونَ
They will be surely helped	وہ سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsarun	لَيُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
You will be surely helped	وہ ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsaran	لَتُنصَرُونَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will be surely helped	تو ضرور مدد کیا جائے گا	La-Tunsaran	لَتُنصَرُونَ
You will be surely helped	تم سب ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsarun	لَتُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will be surely helped	تو ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsarin	لَتُنصَرِينَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will be surely helped	میں ضرور مدد کیا جاؤں گا	La-Unsaran	لَأُنصَرُونَ
We will be surely helped	ہم ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Nunsaran	لَنُنصَرُونَ

Arshad Basheer Madani Notes

1. يُفَعِّلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَّحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

2. يُفَعِّلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَّحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

3. لَا يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

4. لَا يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

5. كَانَ يُفْعَلُ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

															فَتَّحَ
															دَخَلَ
															جَلَسَ
															أَكَلَ
															غَسَلَ
															ذَهَبَ
															ضَرَبَ
															نَصَرَ
															شَرِبَ
															لَبَسَ

6. كَانَ يُفْعَلُ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

															فَتَّحَ
															دَخَلَ
															جَلَسَ
															أَكَلَ
															غَسَلَ
															ذَهَبَ
															ضَرَبَ
															نَصَرَ
															شَرِبَ
															لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

7. لِيَفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

8. لِيُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

9. سَيُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَّحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

10. سَيُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَّحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

11. سَوْفَ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

12. سَوْفَ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

13. اَنْ يُفْعَلَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																				فَتَّحَ
																				دَخَلَ
																				جَلَسَ
																				أَكَلَ
																				غَسَلَ
																				ذَهَبَ
																				ضَرَبَ
																				نَصَرَ
																				شَرِبَ
																				لَبَسَ

14. اَنْ يُفْعَلَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																				فَتَّحَ
																				دَخَلَ
																				جَلَسَ
																				أَكَلَ
																				غَسَلَ
																				ذَهَبَ
																				ضَرَبَ
																				نَصَرَ
																				شَرِبَ
																				لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

15. لَنْ يُفْعَلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																				فَتَحَ	
																					دَخَلَ
																					جَلَسَ
																					أَكَلَ
																					غَسَلَ
																					ذَهَبَ
																					ضَرَبَ
																					نَصَرَ
																					شَرِبَ
																					لَبَسَ

16. لَنْ يُفْعَلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																					فَتَحَ
																					دَخَلَ
																					جَلَسَ
																					أَكَلَ
																					غَسَلَ
																					ذَهَبَ
																					ضَرَبَ
																					نَصَرَ
																					شَرِبَ
																					لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

17. کئی یُفَعِّلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَّحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

18. کئی یُفَعِّلَ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَّحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

19. اِذْنُ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

20. اِذْنُ يُفْعَلُ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

21. اِن يُفْعَلْ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَّحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

22. اِن يُفْعَلْ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																			فَتَّحَ
																			دَخَلَ
																			جَلَسَ
																			أَكَلَ
																			غَسَلَ
																			ذَهَبَ
																			ضَرَبَ
																			نَصَرَ
																			شَرِبَ
																			لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

23. لَمْ يُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

24. لَمْ يُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

25. لَمَّا يُفْعَلْنَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَّحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

26. لَمَّا يُفْعَلْنَ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَّحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

27. لِيُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

28. لِيُفْعَلْ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																		فَتَحَ
																		دَخَلَ
																		جَلَسَ
																		أَكَلَ
																		غَسَلَ
																		ذَهَبَ
																		ضَرَبَ
																		نَصَرَ
																		شَرِبَ
																		لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

29. لَا يُفْعَلْنَ كَے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																	فَتَّحَ
																	دَخَلَ
																	جَلَسَ
																	أَكَلَ
																	غَسَلَ
																	ذَهَبَ
																	ضَرَبَ
																	نَصَرَ
																	شَرِبَ
																	لَبَسَ

30. لَا يُفْعَلْنَ كَے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																	فَتَّحَ
																	دَخَلَ
																	جَلَسَ
																	أَكَلَ
																	غَسَلَ
																	ذَهَبَ
																	ضَرَبَ
																	نَصَرَ
																	شَرِبَ
																	لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

31. لِيُفْعَلَنَّ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

32. لِيُفْعَلَنَّ کے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

														فَتَحَ
														دَخَلَ
														جَلَسَ
														أَكَلَ
														غَسَلَ
														ذَهَبَ
														ضَرَبَ
														نَصَرَ
														شَرِبَ
														لَبَسَ

Arshad Basheer Madani Notes

33. لِيُفْعَلَنَّ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																فَتَّحَ
																دَخَلَ
																جَلَسَ
																أَكَلَ
																غَسَلَ
																ذَهَبَ
																ضَرَبَ
																نَصَرَ
																شَرِبَ
																لَبَسَ

34. لِيُفْعَلَنَّ كے وزن پر نیچے دیے گئے افعال کی تصریف لکھیے

																فَتَّحَ
																دَخَلَ
																جَلَسَ
																أَكَلَ
																غَسَلَ
																ذَهَبَ
																ضَرَبَ
																نَصَرَ
																شَرِبَ
																لَبَسَ

Vocabulary

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



Mil'aaqah | مَلْعَقَةٌ

Spoon | چمچا



Shaukah | شَوْكَةٌ

Fork | کانا



Sikkeen | سِكِينٌ

Knife | چاقو



Mighrafah | مِغْرَفَةٌ

Ladle | ڈوئی



Ghalaya Shaae | غَلَايَةُ شَايٍ

Kettle | کیتلی



Ibreeq Qahwah | إِبْرَيْقُ قَهْوَةٍ

Coffee pot | کافی کا جگ



Tabaq | طَبَقٌ

Plate | پلیٹ



Tabaq firjaan | طَبَقُ فِرْجَانٍ

Saucer | طشتری



Saltaniyah | سَلْطَانِيَّةٌ

Bowl | کورا



Qidr | قِدْرٌ

Pot | ہاڈی



Ghassalah | غَسَّالَةٌ

Washing Machine | واشنگ مشین



Sallajah | سَلَّاجَةٌ

Refrigerator | فرج



Boota jaaz | بُوْتَا جَاازٌ

Cooker | کوکر



Rafful Matbakh | رَفُّ الْمَطْبَخِ

Kitchen Stand | برتنوں کا سٹانڈ



Miknasah kahrbaayyah | مِكْنَسَةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ

Vacuum Cleaner | وکیوم کلیئر

Conversation

الذَّهَابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

مدرسه کی طرف روانگی

Going to the School



Going to the School

مدرسه کی طرف روانگی

الذَّهَابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

06

اردو آپ کہاں جا رہے ہیں؟

عربی إِلَى أَيِّنَ تَذْهَبُ؟

English Where are you going?

Roman Ila aina tazhab?

عربی أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

اردو مدرسہ جا رہا ہوں۔

Roman Azhabu ilal madrasah

English I'm going to school.

اردو آپ مدرسہ میں کیا کرتے ہیں؟

عربی مَاذَا تَعْمَلُ فِي الْمَدْرَسَةِ؟

English What do you do in school?

Roman Maaza ta' malu fil madrasah

عربی أَتَعَلَّمُ

اردو تعلیم حاصل کرتا ہوں۔

Roman Ata'allamu

English I learn.

اردو آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟

عربی فِي أَيِّ مَدْرَسَةٍ تَتَعَلَّمُ؟

English What school do you go to?
(what school do you study at)?

Roman Fi ayyati madrasatin tata'allamu?

عربی أَتَعَلَّمُ فِي مَدْرَسَةٍ عَرَبِيَّةٍ

اردو میں عربی مدرسہ میں پڑھتا ہوں۔

Roman Ata'allamu fi madrasatin arabiyyah

English I study in an Arabic school.

اردو آپ اس مدرسہ میں کیا پڑھتے ہیں؟

عربی مَاذَا تَتَعَلَّمُ فِي تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ؟

English What do you study in that school?

Roman Maaza tata'allamu fi tilkal madrasah

الذهاب الى المدرسة

عربی میں عربی زبان اور دینی علوم پڑھتا ہوں۔
 Roman: Ata'allamu allughatal arabiyyah wal-uloom ad-diniyyah
 English: I study Arabic language and religious knowledge.

عربی مَنْ أَسْتَاذُكَ؟
 اردو آپ کے استاد کون ہیں؟
 Roman: Man uštazuk?
 English: Who is your teacher?

عربی أَسْتَاذِي وَوَلِيدُ
 اردو میرے استاد ولید ہیں۔
 Roman: Uštazi waleed
 English: My teacher Is Waleed

عربی مَنْ مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ؟
 اردو مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر کون ہیں؟
 Roman: Man mudeerul madrasah?
 English: Who is the headmaster of your school?

عربی مُدِيرُ مَدْرَسَتِي أَرْشَادُ
 اردو میرے مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر ارشد ہیں۔
 Roman: Mudeeru madrasati Arshadu
 English: The headmaster of my school is Arshad

عربی فِي أَيِّ شَارِعٍ تَقَعُ مَدْرَسَتُكَ؟
 اردو آپ کا مدرسہ کس سڑک پر واقع ہے؟
 Roman: Fi ayyi shaari' taqa'au madrasatuk
 English: Which street is your school in?

عربی مَدْرَسَتِي فِي شَارِعٍ...
 اردو میرا مدرسہ سڑک پر واقع ہے۔
 Roman: Madrasati fi shaari'.....
 English: My school is in street...

عربی هَلْ مَدْرَسَتُكَ كَبِيرَةٌ؟
 اردو کیا آپ کا مدرسہ بڑا ہے؟
 Roman: Hal madrasatuka kabeerah?
 English: Is your school big?

عربی نَعَمْ، مَدْرَسَتِي كَبِيرَةٌ
 اردو جی ہاں، میرا مدرسہ بڑا ہے۔
 Roman: Na'am madrasati kabeerah
 English: Yes, it is.

عربی كَمْ فَضْلًا فِي مَدْرَسَتِكَ؟
 اردو آپ کے مدرسہ میں کتنے کلاس ہیں؟
 Roman: Kam faslan fi madrasatik?
 English: How many classes are there in your school?

الذهاب الى المدرسة



عربي

تِسْعَةُ فُصُولٍ

Roman

Tis'atu fusool

اردو

نو کلاسیں ہیں۔

English

Nine classes.

آپ اسکول کیسے جاتے ہیں؟

اردو

كَيْفَ تَأْتِي إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟

عربي

How do you go to school?

English

Kaifa ta'ti ilal madrasah?

Roman



عربي

آتي إِلَى الْمَدْرَسَةِ رَاكِبًا

Roman

Aati ilal madrasati raakiban

اردو

میں مدرسہ کو سوار ہو کر جاتا ہوں۔

English

I ride to school.

آپ کس کی سواری کرتے ہیں؟

اردو

مَاذَا تَرْكَبُ؟

عربي

What do you ride on?

English

Maaza tarkabu?

Roman



عربي

أَرْكَبُ الدَّرَاجَةَ

Roman

Arkabud-darraajah

اردو

میں سائیکل پر سواری کرتا ہوں

English

I ride on a bicycle.

آپ بس کی سواری کیوں نہیں کرتے؟

اردو

لِمَاذَا لَا تَرْكَبُ الْأُتُوبِيسَ؟

عربي

Why don't you go by bus?

English

Limaaza la tarkabul-Autobees?

Roman



عربي

إِنَّ رُكُوبَ الْأُتُوبِيسِ يُكَلِّفُ أُجْرَةً زَائِدَةً

Roman

Inna rukoobal autobees yukallifu ujratan zaaedah

اردو

بس کی سواری زائد کرایہ کی مکلف بناتی ہے۔

English

Going by bus will cost more.

آپ پیدل کیوں نہیں جاتے؟

اردو

أَلَا تَمْشِي؟

عربي

Don't you walk?

English

Ala tamshi

Roman



عربي

لَا، أَنَا لَا أَمْشِي

Roman

Laa, ana la amshi

اردو

نہیں، میں نہیں چل سکتا۔

English

No! I don't walk.

کیوں؟

اردو

لِمَاذَا؟

عربي

Why?

English

Limaaza?

Roman

الذهاب الى المدرسة

<p>عربی</p> <p>لَوْ ذَهَبْتُ مَاشِيًا لَتَأَخَّرْتُ فِي الْحُضُورِ</p> <p>Roman</p> <p>Lau zahabtu maashiyan la-ta'akkhartu fil huzoor</p>	<p>اردو</p> <p>اگر میں پیدل جاؤں تو کافی تاخیر ہوگی۔</p> <p>English</p> <p>I would be late if I went by foot.</p>
<p>عربی</p> <p>لِمَاذَا تَتَأَخَّرُ فِي الْحُضُورِ إِذَا مَشَيْتَ؟</p> <p>Roman</p> <p>Limaaza tata'akkhar fil huzoori iza mashaita?</p>	<p>اردو</p> <p>جب آپ پیدل جائیں گے تو پچھنے میں کیوں دیر کریں گے؟</p> <p>English</p> <p>Why would you be late if you went by foot?</p>
<p>عربی</p> <p>لِأَنَّ بَيْتِي بَعِيدٌ عَنِ الْمَدْرَسَةِ</p> <p>Roman</p> <p>Li-anna baiti ba'eedun anil madrasah</p>	<p>اردو</p> <p>اس لیے کہ میرا گھر مدرسہ سے بہت دور ہے۔</p> <p>English</p> <p>Because my house is far from school.</p>
<p>عربی</p> <p>لِمَاذَا أَذْخَلَكَ أَبُوكَ هَذِهِ الْمَدْرَسَةَ؟</p> <p>Roman</p> <p>Limaaza adkhalaka abuka hazihil madrasah?</p>	<p>اردو</p> <p>آپ کے ابو نے آپ کو اس مدرسہ میں کیوں داخل کیا؟</p> <p>English</p> <p>Why did your father enroll you in this school?</p>
<p>عربی</p> <p>لِأَنَّهَا مَدْرَسَةٌ عَرَبِيَّةٌ وَدِينِيَّةٌ</p> <p>Roman</p> <p>Li-annaha madrasatun arabiyyatun wa deeniyyatun</p>	<p>اردو</p> <p>اس لیے کہ وہ عربی اور دینی مدرسہ ہے۔</p> <p>English</p> <p>Because it is an Arabic and religious school.</p>
<p>عربی</p> <p>فِي أَيِّ قِسْمٍ تَتَعَلَّمُ؟</p> <p>Roman</p> <p>Fi ayyi qismin tata'allamu?</p>	<p>اردو</p> <p>آپ کونے شعبے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟</p> <p>English</p> <p>What department are you studying in?</p>
<p>عربی</p> <p>أَتَعَلَّمُ فِي الْقِسْمِ...</p> <p>Roman</p> <p>Ata'allamu fil-qismi....</p>	<p>اردو</p> <p>میں -- شعبہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔</p> <p>English</p> <p>I'm studying in department....</p>
<p>عربی</p> <p>مَاذَا تَتَعَلَّمُ فِي قِسْمِكَ؟</p> <p>Roman</p> <p>Maaza tata'allamu fi qismik?</p>	<p>اردو</p> <p>آپ اپنے شعبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟</p> <p>English</p> <p>What do you study in your department?</p>
<p>عربی</p> <p>أَتَعَلَّمُ الْعُلُومَ الدِّينِيَّةَ وَاللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ</p> <p>Roman</p> <p>Ata'allamul uloomad-deeniyyah wal lughatal-arabiyyah</p>	<p>اردو</p> <p>میں دینی علوم اور عربی زبان پڑھتا ہوں۔</p> <p>English</p> <p>I study religious knowledge and Arabic language</p>
<p>عربی</p> <p>كَمْ حِصَّةً تَتَعَلَّمُ فِي الْيَوْمِ؟</p> <p>Roman</p> <p>Kam hissatan tata'allamu fil-yaum?</p>	<p>اردو</p> <p>آپ ایک دن میں کتنے گھنٹیاں پڑھتے ہیں۔</p> <p>English</p> <p>How many periods do you attend a day?</p>

الذهاب الى المدرسة



عربی

أَتَعَلَّمُ فِي الْيَوْمِ أَرْبَعَ حَصَصٍ

اردو

میں ایک دن میں چار گھنٹیاں پڑھتا ہوں۔

Roman

Ata'allamu fil yaumi arba'a hisas

English

I attend four periods a day.

اردو

ایک گھنٹی کے لیے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟

عربی

كَمْ دَقِيقَةً لِلْحِصَّةِ الْوَاحِدَةِ؟

English

How long is each period?

Roman

Kam daqeeqatan lilhissatil waahidah?



عربی

خَمْسُ وَأَرْبَعُونَ دَقِيقَةً لِكُلِّ حِصَّةٍ

اردو

پینتالیس منٹ ہر گھنٹی کے لیے ہوتے ہیں۔

Roman

Khamsun wa arba'oon daqeeqatan likulli hissatin

English

Forty-five minutes for each period

اردو

آپ مدرسہ سے کب واپس ہوتے ہیں؟

عربی

مَتَى تَنْصَرِفُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ؟

English

When do you leave from school?

Roman

Mata tansarifu minal-madrasah?



عربی

أَنْصَرِفُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ نَهَارًا

اردو

میں دن کے ایک بجے مدرسہ سے واپس ہوتا ہوں۔

Roman

Ansarifu minal-madrasati fis-saa'atil-waahidati nahaaran

English

I leave school at one o'clock.

اردو

مدرسہ سے واپس ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟

عربی

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ رُجُوعِكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ؟

English

What do you do after returning from school?

Roman

Maaza ta'malu ba'da rujoo'eka minal madrasah?



عربی

أُصَلِّي صَلَاةَ الظُّهْرِ

اردو

میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔

Roman

Usalli salaataz-zuhr

English

I pray Zuhar prayer

اردو

کیا ظہرانہ نہیں کرتے۔

عربی

أَلَا تَتَعَدَّى؟

English

Don't you have lunch?

Roman

Alaa tataghadda?



عربی

أَتَنَاوَلُ الْغَدَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ

اردو

میں ظہر کی نماز بعد ظہرانہ تناول کرتا ہوں۔

Roman

Atanaawalul ghadaa ba'das salaah

English

I have lunch after prayer.

اردو

آپ ظہرانہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟

عربی

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ الْغَدَاءِ؟

English

What do you do after lunch?

Roman

Maaza ta'malu ba'dal ghadaa'?

الذهاب الى المدرسة



عربی

أَسْتَرِيحُ قَلِيلًا

اردو

میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں

Roman

Astareehu qaleelan

English

I take a bit of rest.

آپ آرام کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟

اردو

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ الْإِسْتِرَاحَةِ؟

عربی

What do you do after the rest?

English

Maaza ta'malu ba'dal istiraahah?

Roman



عربی

أُطَالِعُ وَأَكْتُبُ دُرُوسِي

اردو

میں اپنے درس کا مطالعہ کرتا ہوں اور لکھتا ہوں۔

Roman

Utaali'au wa aktubu duroosi

English

I read and write my lessons.

آپ کتنے بجے تک درس کا مطالعہ کرتے ہیں؟

اردو

إِلَى أَيِّ سَاعَةٍ تُطَالِعُ دُرُوسَكَ؟

عربی

Up to what time do you read your lessons?

English

Ila ayyati saa'atin tutaali'au duroosak?

Roman



عربی

أُطَالِعُ إِلَى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ مَسَاءً

اردو

میں شام کے چار بجے تک مطالعہ کرتا ہوں۔

Roman

Utaali'au ilas-saa'atin raabi-ati masaa'an

English

I read until four o'clock in the evening.

پھر آپ کیا کرتے ہیں؟

اردو

ثُمَّ مَاذَا تَعْمَلُ؟

عربی

Then what do you do?

English

Summa maaza ta'malu?

Roman



عربی

أَتَوَضَّأُ وَأُصَلِّي الْعَصْرَ

اردو

میں وضو کرتا ہوں اور عصر کی نماز ادا کرتا ہوں۔

Roman

Atawazza'au wa usalli al-asra

English

I take ablution and pray my Asar prayer.

نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟

اردو

مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟

عربی

What do you do after prayers?

English

Maaza ta'malu ba'das-salah?

Roman



عربی

الْعَبُّ مَعَ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي

اردو

اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔

Roman

Al'abu ma'a ikhwaani wa akhawaati

English

I play with my brothers and sisters.



TAXI

Taxi

ٹیکسی

التاكسي

07

کیا یہ ٹیکسی بک کی ہوئی ہے؟

اردو

هَلْ هَذَا التَّكْسِي مَشْغُولٌ؟

عربی

Has this taxi been booked?

English

Hal haazat-taaksi mashghoolun

Roman

لا، إِنَّهُ غَيْرُ مَشْغُولٍ

عربی

نہیں، یہ بک شدہ نہیں ہے۔

اردو

Laa, Innahu ghairu mashghool

Roman

No, it's free.

English

اچھا، مجھے ریلوے اسٹیشن لے چلو۔

اردو

حَسَنًا، خُذْنِي إِلَى مَحَطَّةِ الْقِطَارِ

عربی

Ok, please take me to the railway station!

English

Hasanan, khuzni ila mahattatil qitaar

Roman

نَعَمْ، أَيْنَ حَقَائِبِكَ يَا سَيِّدِي؟

عربی

جی اچھا، آپ کا سامان کہاں ہیں جناب؟

اردو

Na'am, aina haqaaebuka ya sayyidi?

Roman

Yes, where is your luggage sir?

English

وہ وہاں ہے۔

اردو

هَآ هِيَ هُنَاكَ

عربی

It's over there.

English

Ha hiya hunaak

Roman

اسے کار کے اندر رکھ دیجیے۔

اردو

ضَعُهَا دَاخِلَ السَّيَّارَةِ

عربی

Put it inside the car.

English

Za'ha dakhilas sayyaarah

Roman

أَجَلْ يَا سَيِّدِي

عربی

ٹھیک ہے جناب

اردو

Ajal ya sayyidi

Roman

Yes sir.

English

اپنی تیزی بڑھائیے کیونکہ مجھ سے تاخیر ہو چکی ہے۔

اردو

زِدْ سُرْعَتَكَ فَإِنَّا مُتَأَخِّرُونَ

عربی

Please hurry because i'm already late!

English

Zid sur'atak fa-ana muta'akhkhir

Roman

التَّائِسِي



عَرَبِي وَهُوَ كَذَلِكَ

Roman Wa Huwa kazaalik

AsklIslamPedia اُٹھیک ہے

English All right.

اُردو برائے مہربانی ٹھہر جائیے

English Stop, please!

عَرَبِي قِفْ مِنْ فَضْلِكَ

Roman Qif min fazlik

اُردو کتنا کرایہ ہوا؟

English What is the fare?

عَرَبِي كَمِ الْأَجْرَةَ؟

Roman Kamil ujah



عَرَبِي الْأَجْرَةُ مُبَيَّنَةٌ فِي الْعَدَّادِ

Roman al ujratu mubayyinun fil addaad

اُردو کرایہ میٹر میں واضح ہے۔

English The fare is shown on the meter.

اُردو اچھا، وہ کتنا ہے؟

English Right, how much?

عَرَبِي طَيِّبٌ، كَمِ سَعْرُهَا؟

Roman Tayyib, kam se'ruha



عَرَبِي دِينَارَانِ

Roman dinaaraan

اُردو دو دینار

English Two dinars.

اُردو قلی! مہربانی کر کے کیا آپ میرا سامان اٹھا کر لے چلیں گے۔

English Porter! Will you carry my luggage, please?

عَرَبِي يَا حَمَّالُ؟ أَلَا تَتَوَلَّى حَمْلَ أَمْتِي مِنْ فَضْلِكَ؟

Roman Ya hammaal! ala tawalla hamla amti'ati min fazlik?



عَرَبِي إِلَى أَيْنَ يَا سَيِّدِي؟

Roman Ila aina ya sayyidi?

اُردو کدھر جناب؟

English Where to, sir?

اُردو میری سیٹ تک

English To my seat.

عَرَبِي إِلَى مَقْعَدِي

Roman Ila maq'adi



عَرَبِي حَسَنًا يَا سَيِّدِي.

Roman Hasanan ya sayyidi.

اُردو اچھا جناب

English Yes, sir.

الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات

